

105994 - عقد نکاح کے ایک روز بعد طلاق کے وسوسہ کا شکار ہو گیا

سوال

میرا سوال طلاق میں وسوسہ کے متعلق ہے: میرا ایک لڑکی سے عقد نکاح ہوا ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں عقد نکاح کے ایک روز بعد شیطاں نے نماز میں مجھے طلاق کا وسوسہ ڈالا کام پر ہوؤں یا گھر میں یا بیت الخلا میں یا سویا ہوا ہوں یہی وسوسہ رہتا ہے۔

ایک دن میں العفاسی چینل دیکھ رہا تھا جس میں ازدواجی زندگی کے بارہ میں ایک ویڈیو کلپ تھا جس میں خاوند اور بیوی کے مابین پیدا ہونے والی مشکلات بیان ہوئی ہیں ایک شخص کہنے لگا: میں جانے والا ہوں تو میں نے اسے سنا اور آواز کے ساتھ دھرایا تجھے طلاق، لیکن مجھے کوئی علم نہیں اور نہ ہی ادراک تھا، اللہ میری نیت کو جانتا ہے میں نے بغیر شعور کے یہ الفاظ بولے۔

اور میری نیت میں میری بیوی کے متعلق کوئی چیز بھی نہ تھی بلکہ میں تو اسے محبت کرتا اور چاہتا ہوں اس سلسلہ میں شرعی حکم کیا ہے جس حالت میں یہ الفاظ بولے ہیں آیا طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں اور اس وسوسہ کا علاج کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو شفا یابی و عافیت سے نوازے۔

آپ نے جس طلاق کا ذکر کیا ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" وسوسہ میں مبتلا شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی چاہے وہ زبان سے اس کے الفاظ بھی ادا کر لے جب تک وہ طلاق کا قصد اور ارادہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ یہ الفاظ تو وسوسہ والے شخص سے بغیر قصد اور ارادہ کے صادر ہوئے ہیں، بلکہ اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس وسوسہ کی قوت دافع اور مانع کی قوت کی قلت کی بنا پر مجبور ہے۔

اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" عقل پر پردہ پڑا ہونے کی صورت میں طلاق نہیں ہوتی "

اس لیے اگر وہ حقیقی طور پر اطمینان کے ساتھ طلاق کا ارادہ نہ کرے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، تو جس چیز پر اسکا قصد اور ارادہ ہی نہیں اور وہ مجبور ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی " انتہی

دیکھیں: فتاویٰ اسلامیة (3 / 277) .

آپ کو اپنے وسوسہ کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور نیک و صالح اعمال بھی کثرت سے کریں، اور وسوسہ سے آپ اعراض کریں اور اس پر توجہ مت دیں، اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر (41027) اور (10160) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے آپ اس کا مطالعہ کریں.

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یہ وسوسہ اعوذ با اللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے زائل ہو گا، اور بندے کی انتہاء یہ ہونی چاہیے کہ جب اسے وسوسہ یعنی شیطان یہ کہے کہ: تم نے چہرہ نہیں دھویا تو وہ کہے: کیوں نہیں میں نے اپنا چہرہ دھویا ہے، اور جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ اس نے نیت نہیں کی تو وہ تکبیر کہے اور دل سے کہے کیوں نہیں میں نے نیت کی اور تکبیر کہی ہے، چنانچہ وہ حق پر ثابت قدم رہے اور اسے جو وسوسہ آ رہا ہے اسے دور کر دے اور اس کی طرف توجہ مت دے، تو جب شیطان اس کی قوت و ثابت قدمی دیکھے گا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیگا.

وگرنہ جب شیطان بندے میں شکوک و شبہات کو قبول کرنے والا دیکھتا ہے اور وسوسہ کی طرف التفات کرنے والا پاتا ہے تو اس طرح کی اشیاء اس میں پیدا کرتا ہے جس کو دور کرنے سے بندہ عاجز آ جاتا ہے، اور اس کا دل شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، جنوں اور انسانوں کی باتوں کو مزین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ اس سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شیطان اسے تباہی کے دھانے پر لے آتا ہے " انتہی

دیکھیں: درء التعارض (3 / 318) .

اس لیے آپ اپنے آپ سے وسوسہ کو دور کریں اور اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں تو ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے یہ زائل ہو جائیگا.

واللہ اعلم .